

158560- نماز میں صفیں سیدھی کرنا اور ملانا واجب ہے۔

سوال

سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (جو شخص صف ملائے اللہ تعالیٰ اسے ملا دیتا ہے) عید نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زائد صفوں میں خالی جگہ پڑی ہوتی ہے جہاں تین نمازی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ایسے خالی جگہ پر کیے بغیر چھوڑ دینے کا کیا حکم ہے؟

پسندیدہ جواب

نماز میں صف بندی اور صفیں برابر کرنا واجب ہے، اس کی وضاحت پہلے سوال نمبر: (36881) کے جواب میں گزر چکی ہے۔

نیز یہ حکم نماز عید یا دیگر تمام نمازوں کیلئے ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔

صف بندی میں یہ بھی شامل ہے کہ صفیں درمیان سے خالی نہ ہوں، بلکہ متصل ہوں، چنانچہ ابو داؤد: (666) میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (صفیں سیدھی کرو، اپنے کندھوں کو برابر کر لو، خالی جگہ پر کرو، اور اپنے بھائیوں کیلئے نرمی اپناؤ، شیطان کیلئے خالی جگہ مت چھوڑو، صف ملانے والے کو اللہ تعالیٰ ملاتا ہے اور صف توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے۔) اسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔

صحیح مسلم: (430) میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: (تم ایسے صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں صف بندی کرتے ہیں!) تو ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (وہ پہلے اگلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صفوں میں خلل نہیں چھوڑتے)

اسی طرح ابو داؤد: (671) اور نسائی: (818) میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (پہلے اگلی صفیں مکمل کرو اور پھر اس کے متصل بعد والی، اگر کسی صف میں کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہو) اس حدیث کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد وغیرہ میں صحیح قرار دیا ہے۔

الباجی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

”پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنا واجب ہے، چنانچہ نقض صرف آخری صفوں میں ہونا چاہیے“ انتہی
”المنتقى - شرح الموطأ“ (386/1)

اسی طرح ”الموسوعة الفقهية“ (27/36) میں ہے کہ:

”صفیں سیدھی اور برابر کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کیا جائے اور دوسری صف اسی وقت شروع کی جائے جب پہلی صف مکمل ہو جائے، اس پر تمام فقہائے کرام کا اتفاق ہے۔

چنانچہ اس بنا پر اگر سامنے والی صفوں میں خالی جگہ موجود ہے تو نبی صفت نہ بنائے یا پچھلی صف میں بھی کھڑا نہ ہو، بلکہ صفوں کو چیرتے ہوئے خالی جگہ تک پہنچے اور اسے پر کرے۔“ انتہی

شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا :

”اگر نماز تراویح یا قیام اللیل میں نمازیوں کے چلے جانے کی وجہ سے صفوں میں خلل پیدا ہو جائے تو کیا امام دوسری صف میں موجود لوگوں کو پہلی صف میں آنے کا کہہ سکتا ہے؟“
توانوں نے جواب دیا :

”نماز باجماعت فرض ہو یا نفل پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنا واجب ہے؛ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صفوں کو پہلے مکمل کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور ترغیب بھی دلائی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (تم ایسے صف بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں صف بندی کرتے ہیں!) تو ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے صف بندی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (وہ پہلے اگلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صفوں میں خلل نہیں پھوڑتے) ”انتہی“
”مجموع فتاویٰ ابن باز“ (125-124/30)

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”امام کی جانب سے نماز عید اور استسقا میں نمازیوں سے صفیں سیدھی کرنے کا مطالبہ کرنا اسی طرح درست ہے جیسے دیگر نمازوں میں درست ہے؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کی اس بات کی تشبیہ نہ کی جائے تو صفیں سیدھی کرنے سے غافل رہ سکتے ہیں، لہذا جس نماز کو باجماعت ادا کیا جاسکتا ہے اس نماز میں امام مقتدیوں کو صفیں سیدھی کرنے کا کہہ سکتا ہے ”انتہی“
”لقاء الباب المفتوح“ (9/46)

اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ :

”صفیں اچھی طرح سیدھی اور ملانے کے بارے میں بہت سے امام اور مقتدی سستی کا شکار ہیں، آپ کو نظر آنے گا کہ صفوں میں خالی جگہ پڑی ہوتی ہے لیکن کوئی اسے پر نہیں کرتا، یہ طریقہ غلط ہے؛ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں میں خالی جگہ پر کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں صف بندی کرتے ہوئے خالی جگہیں بھی پر کر دیتے ہیں ”انتہی“

”فتاویٰ نور علی الدرب“ از: ابن عثیمین (161/111)

تاہم اگر صف میں خالی جگہ موجود ہو اور اسے پر کیے بغیر نماز ادا کر لیں تو ان کی نماز صحیح ہے، لیکن ان کا یہ عمل اچھا نہیں ہے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”صف بندی واجب ہونے کے باوجود صف بندی نہ کرنے والے کی نماز صحیح ہے ”انتہی“

”فتح الباری“ (210/2)

واللہ اعلم.